



اس ذات کی قسم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کی مطابقت کروں گا باندی اور بکریاں تمہیں واپس ملیں گی اور تمہارے بیٹے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا اچھا، سنو انیس! (قبیلہ بنو اسلم کے ایک شخص) تم اس عورت کے لیے جاؤ اگر وہ بھی (زنا کا) اقرار کر لے، تو اسے رجم کر دو

ابو ہریرہ اور زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ایک دن اہل صحابہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ! میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں دوسرے فریق نے جو اس سے زیادہ سمجھ دار تھا، کہا کہ جی ہاں! کتاب اللہ کے مطابق ہی ہمارا فیصلہ فرمائیں، اور مجھے (اپنا مقدمہ پیش کرنے کی) اجازت دیجیے آپ نے فرمایا کہ پیش کرے اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ میرا بیٹا ان صاحب کے لیے ہاں مزدور تھا پھر وہ ان کی بیوی کے ساتھ زنا کا ارتکاب کر بیٹھا جب مجھے معلوم ہوا کہ (زنا کی سزا میں) میرے لڑکے کو سنگسار کر دیا جائے گا، تو میں نے اس کے بدلے میں سو بکریاں اور ایک باندی دے دی پھر اہل علم سے اس کے بارے میں دریافت کیا، تو پتہ چلا کہ میرے لڑکے کو (غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے) زنا کی سزا میں سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا البتہ اس کی بیوی رجم کر دی جائے گی رسول اللہ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کی مطابقت کروں گا باندی اور بکریاں تمہیں واپس ملیں گی اور تمہارے بیٹے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا اچھا، سنو انیس! (قبیلہ بنو اسلم کے ایک شخص) تم اس عورت کے لیے جاؤ اگر وہ بھی (زنا کا) اقرار کر لے، تو اسے رجم کر دو“ چنانچہ انیس رضی اللہ عنہ اس عورت کے لیے گئے اور اس نے اقرار بھی کر لیا لہذا رسول اللہ کے حکم سے اس خاتون کو سنگسار کر دیا گیا

[صحیح] [متفق علیہ]

یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک شخص نے کسی کے ہاں مزدوری کی اور صاحب خانہ کی بیوی کے ساتھ زنا کا ارتکاب کر بیٹھا زانی کے والد نے یہ بات سن رکھی تھی کہ زانی کی سزا رجم (سنگسار کرنا) ہے؛ لہذا اس نے خاتون کے شوہر کو سو بکریاں اور ایک باندی فدیہ میں دے دی پھر بعض اہل علم سے دریافت کرنے پر انہیں پتہ چلا کہ ان کے بیٹے پر نہیں، بلکہ اس خاتون پر رجم کی سزا نافذ ہوگی اور ان کے بیٹے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے اس کو جلا وطنی کی زندگی گزارنی ہوگی لہذا زانیہ خاتون کا شوہر اور زانی شخص کے والد، دونوں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ان کے مابین کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ صادر فرمائیں آپ نے زانی کے والد کی سو بکریاں اور باندی واپس کرنے کا حکم دیا اور انہیں اس بات سے مطلع فرمایا کہ ان کے بیٹے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا؛ کیونکہ وہ تاحال غیر شادی شدہ تھا اور زانیہ خاتون کے تئیں حکم دیا کہ اس سے بھی اس امر کا تیقن حاصل کر لیا جائے کہ اس نے اس بدکاری کا ارتکاب کیا لہذا اقرار جرم کے بعد اس خاتون کو سنگسار کر دیا گیا؛ کیوں کہ وہ شادی شدہ تھیں



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

